

مقدمہ

الحمد لله نحمده و نستعينه من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اما بعد

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں لیکن ایک مقام پر اپنی ایک خاص نعمت کو اپنا احسان قرار دیتے ہیں اور وہ نعمت خاص رسول اللہ ﷺ کا مبعوث کیا جانا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی کہ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ O (ال عمران: 164)

"درحقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔"

رسول اللہ ﷺ کی بعثت تمام جہانوں کے لئے باعثِ رحمت ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں اس رحمت سے صرف وہی لوگ بہرہ مند ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ذات و تعلیمات کا علم رکھتے ہوں۔ کیونکہ اتباع رسول ﷺ کے لئے سنت کا علم ہونا ضروری ہے۔ نیز اتباع رسول ﷺ ہماری زندگیوں میں رحمت، امن اور مثبت تبدیلی لانے کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔

اس کتاب کو مرتب کرنے کی غرض بھی یہی ہے۔ اس کتاب میں روزمرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی کرنے والی احادیث کو جمع کیا گیا۔ یہ وہ تحفہ احادیث ہے جو ہر شخص کے لئے فائدہ مند ہے۔ امید ہے کہ احادیث رسول ﷺ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور یہی جذبہ محبت عمل کو مزید تقویت دے گا جو فلاح اور کامیابی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)

احادیث رسول ﷺ کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ ان احادیث کو یاد کیا جاسکے۔ اس مقصد کے لئے حدیث کا متن نمایاں کر کے لکھا گیا ہے۔ نیز احادیث کے انتخاب کے وقت اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ تمام احادیث صحیح درجہ کی ہوں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے فائدہ مند بنائے اور احادیث رسول ﷺ کو سمجھنے اور ان پر احسن طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا رخیر میں ہونے والی تمام تر کوششوں کو دنیا میں اپنی رحمت اور آخرت میں بہترین جزا کی صورت میں ذخیرہ کر لے۔ آمین

الهدی شعبہ تحقیق

Al HUDA International Welfare Foundation

OUR VISION.

Quran For All. In Every Hand ,In Every Heart

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى

قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ [رواه مسلم، كتاب البر: 6543]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور اموال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔
Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said,

"Indeed Allah does not look at your appearance and your wealth, but he looks at your hearts and your deeds."

2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهُ بِهِ [رواه مسلم، كتاب

الزهد: 7476]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ (اس کی بدنی قیامت کے دن) سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لئے کام کرے (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ اس کو بھی سب لوگوں کو دکھا دے گا۔

Ibn Abbas رضی اللہ عنہ narrated : Allah's Messenger ﷺ said,

"Whoever sought fame for his good deeds Allah will make his (real) intention heard (on the Day of Resurrection), and whoever did any deed to show off (then) Allah will disclose (real) intention (on the Day of Resurrection)."

3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ [رواه ابن ماجه، كتاب الزهد: 4229]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated : Allah's Messenger ﷺ said, "Indeed mankind will be raised on their intentions."

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا [رواه البخاری، كتاب المناقب: 3493]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، (اچھائی اور برائی میں) تم انسانوں کو کان (کی طرح) پاؤ گے جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر (اور اچھی صفات والے) تھے وہ اسلام کے بعد بھی بہتر ہیں جب کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated : Allah's Messenger ﷺ said,

(with respect to good and bad) "You will find people as mind those who were the best of them in Pre-Islamic Ignorance are also the best of them when they comprehend (Deen)."

5. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ،**

وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اِحْرَصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ [رواه مسلم، كتاب القدر 6774]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور ہر ایک میں بہتری ہے، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو۔ اور اگر تمہیں کچھ (نقصان) پہنچ جائے تو یہ مت کہو، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ البتہ یہ کہو، اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا۔ کیونکہ "اگر" (کالفظ) شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said,

"A strong believer is better and dearer to Allah than a weak believer, and in each there is good. Be desirous for that which is beneficial for you and seek help from Allah and do not be helpless. If any thing afflicts you do not say: Indeed if I had done this or that (it would have resulted into such and such) but say: Allah (so) ordained and did as He willed. Indeed the word 'if' opens the (door to) satanic conduct."

6. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ**

[رواه مسلم، كتاب الايمان: 372]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہوا اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، مبارک ہو ان اجنبیوں کو۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said,

"Islam began as a stranger and will soon return to being like a stranger, so glad tidings for the strangers."

7. عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: **يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالأَوَّلُ وَيَبْقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ**

الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ، لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بِالَّةَ [رواه البخاری، كتاب الرقاق: 6434]

سیدنا مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے (کچھ لوگ) دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پروا نہ ہوگی۔

Mirdas Al-Aslami رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said,

"The Righteous people will depart in succession one after the other, and there will remain (worthless people) like the worthless husk of barley seeds or (useless) remains of dates and Allah will not care the least for them."

8. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا**

تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبِدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبِدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ [رواه أبو داود، كتاب الترحل: 4161]

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے ایک دن آپ ﷺ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم

نہیں سنتے؟ بیشک سادگی ایمان کا جزو ہے، بے شک سادگی ایمان کا جزو ہے۔

The companions of Allah's رسول الله صلى الله عليه وسلم mentioned the world before him narrated: He said, "Do you not hear? Do you not hear? Simplicity is (part) of Iman, Simplicity is (part) of Iman."

9. عن أبيه مالك بن نضلة قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِي فَرَأَيْتُ رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ: أَلَيْكَ مَالٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ:

فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرِ اثْرُهُ عَلَيْكَ [رواه النسائي، كتاب الزينة: 5225]

سیدنا مالک بن نضلة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا تھا اور آپ ﷺ نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ ہر قسم کا مال موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہئے۔

Malik bin نضلة رضی اللہ عنہ narrated: I was sitting near Allah's Messenger ﷺ saw my torn clothes and said, "Do Nazlah you have wealth?". I said, yes, O Messenger of ﷺ have every kind of wealth. Then Allah's Messenger Allah ﷺ, replied "When Allah has bestowed wealth upon you, it's traces should be visible upon you."

10. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ: بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ [رواه مسلم، كتاب الايمان: 265]

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوئے اچھے ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر: حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔

Abdullah bin Masud رضی اللہ عنہ narrated: Allah's messenger ﷺ said "He who has in his heart , a particle of . " arrogance, will not enter Paradise A person said: 'Indeed a person likes to wear beautiful clothes and nice shoes?' Allah's Messenger ﷺ said "Indeed Allah is beautiful and He loves beauty, arrogance means rejection, of the truth and contempt for people."

11. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ

إِلَّا زَانَهُ [رواه الترمذی، كتاب البر والصلة: 1974]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور حیاء جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے۔

Anas رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "When there is Indecency in anything it disfigures it, and when there is Modesty in anything it beautifies it."

12. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **الْمُؤْمِنُ مُؤَلَّفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ** [رواه أحمد: 2، 400]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مؤمن (سرپا) الفت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے۔
Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "A Momi is an embodiment of love and affection and there is no good in one who neither loves nor is loved."

13. عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ**

[رواه البخاری، کتاب الایمان: 17]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔
Anas رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "A sign of Iman is love of Ansaar and a sign of hypocrisy is to hate the Ansaar."

14. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا**

[رواه النسائي، كتاب الجهاد: 3112]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بخل اور ایمان کبھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔
Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said "Miserliness and Iman can never gather, in the heart, of a person."

15. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **اتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ**

عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ [رواه مسلم، كتاب البر والصلة: 6576]

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بخل سے بچو! اس لئے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنیوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔

Jabir bin Abdullah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Be on guard against miserliness, for Indeed miserliness Abdullah destroyed those before you. It incited them to shed blood of their own and make the unlawful as lawful."

16. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: **مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ**

اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ [رواه أبو داود، كتاب السنن: 4681]

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لئے بغض رکھا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لئے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

Abu Umamah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Whoever loved for Allah and hated for Allah and gave for Allah and withheld for Allah so indeed he has completed his Iman."

17. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ
[رواه ابو داود، كتاب الوتر: 1479]

Nauman bin Bashimarrated : The Prophet ﷺ said, "Dua (supplication) is by itself Worship."

18. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

[رواه الترمذی، كتاب الدعوات: 3373]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔
Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated : Allah's Messenger ﷺ said "Surely, he who does not ask from Allah, Allah's anger is upon him."

19. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلَهَا [رواه مسلم، كتاب الايمان: 252]

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا، کونسا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔

Abdullah bin Masud رضی اللہ عنہ narrated, "I asked the Messenger of Allah ﷺ "Which act is the best?"

"He ﷺ replied, "Prayer at it's appointed time"

20. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخَّرًا فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ

بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ [رواه مسلم، كتاب الصلاة: 982]

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب میں پیچھے رہنا دیکھا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا، آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو اور جو تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتداء کریں، کچھ لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔

Abu Saeed Al-Khudri رضی اللہ عنہ narrated: When Allah's Messenger ﷺ saw his Companions remaining behind, he said to them, "Come forward and follow me and let those who come after you follow ysome people continue to fall behind, untill Allah puts them behind."

21. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

[رواه مسلم، كتاب الصلاة: 912]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said,

"Whoever sends blessing upon me once, Allah will send blessings upon him ten times."

22. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَقْرَأُ وَالْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا

لأَصْحَابِهِ [رواه مسلم، كتاب فضائل القرآن: 1874]

سیدنا ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا۔
Abu Umamah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said,
"Recite The Qur'an, for it will come as an intercessor on the day of Standing (Ressurrection) for its companions."

23. عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَأَحْبَبُوا أَنْ يَدْعُهُ عَلَى هَيْئَتِهِ۔ فَقَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ [رواه مسلم، كتاب المساجد: 1190]

سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا اور یہ چاہا کہ مسجد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اسی کی مانند گھر بنائے گا۔

Mehmood bin Labeed رضی اللہ عنہ narrated that Uthman bin Affan رضی اللہ عنہ intended to build a mosque and the people disliked it and wanted that it should be left as it is. So Uthman bin Affan رضی اللہ عنہ stated that I heard the Messenger of Allah ﷺ say, "Whoever builds a mosque for Allah, Allah will build a similar one for him in paradise."

24. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى

اللَّهِ أَسْوَاقُهَا [رواه مسلم، كتاب المساجد: 1528]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ بری جگہیں بازار ہیں۔
Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "The most beloved of places near Allah are the mosques and the most disliked are the markets."

25. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضی اللہ عنہ) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ،

وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ [رواه مسلم، كتاب الصيام: 2496]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں باندھ دیئے جاتے ہیں۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "When the month of Ramadhan (begins) the gates of mercy are opened, and the gates of Hell are closed and the devils are chained."

26. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا

كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ [رواه البخاری، كتاب الادب: 6012]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس سے انسان یا چارپائے کھا جائیں تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے۔
"If a muslim plants a tree, and then men, or animals eat from it, it becomes sadaqa (charity) for him."

27. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي

الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [رواه ابن ماجه، كتاب الزكاة: 1844]

سیدنا سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مسکین کو صدقہ کرنے (کا اجر) ایک صدقہ کا ہے اور رشتہ دار پر (صدقہ کا اجر) دو گنا ہے ایک صدقہ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔

Salman bin Amir رضي الله عنه narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "To give sadaqa to a needy person is equivalent to one reward and to a relative is double - one for giving the sadaqa and one for keeping the relations."

28. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَ مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا،

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ [رواه مسلم، كتاب البر والصلة: 6592]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔

Abu Hurairah رضي الله عنه narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Sadaqa does not decrease wealth, and he who forgives, Allah adds to his respect and whoever adopts humility for Allah, Allah elevates him."

29. عَنْ جَدَّةِ تَيْهِ حَوَاءِ بِنْتِ السَّكَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظُلْفٍ [رواه النسائي، كتاب الزكاة: 2566]

سیدنا حواء بنت سکن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سائل کو (کچھ نہ کچھ دے کر ہی) واپس کرو خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔
Hawa bint-e-Sakan رضي الله عنها narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Return the beggar by giving him something, even if it is the trotter of a sheep."

30. عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا

مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ [رواه الترمذی، كتاب الزهد: 2376]

سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد (اور خرابی) نہ کریں گے

جس قدر مال و جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے۔

Kaab bin malik Al-Ansari رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Two hungry wolves (if) let loose person's greed for wealth and amongst sheep will not cause more harm (and corruption) to them than a status will do to his Deen."

31. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ

بِمَا آتَاهُ [رواه مسلم، كتاب الزكاة: 2426]

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، فلاح پا گیا جو اسلام لایا، اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر اس نے قناعت کی۔

Abdullah bin Amr bin Al-As رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "He has succeeded who accepted Islam, and was given sufficient provision and was content upon what Allah gave him."

32. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ [رواه ابن ماجه، كتاب الصيام: 1764]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا، کھانے پر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, " The one who eats with gratitude is like the one who is patient while fasting."

33. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ [رواه أبو داود، كتاب الادب: 4811]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Whoever fails to thank people fails to thank Allah."

34. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ

وَلَدَتْهُ أُمُّهُ [رواه البخاري، كتاب الحج: 1521]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش کام نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو وہ اس دن کی طرح (پاک ہو کر) لوٹتا ہے، جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: I heard the Prophet ﷺ say, "Whoever performs Hajj for Allah and does not do indecent acts, and does not disobey Allah, he will return (pure) like the day his mother gave birth to him."

35. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَاهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ،

فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ [رواه البخارى، كتاب الحج: 1671]

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ آ رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے پیچھے سخت شور (ڈانٹ ڈپٹ) اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ ﷺ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگو سکینت اختیار کرو، یقیناً تمہیں تیز رفتاری (کانام) نہیں ہے۔

Ibn Abbas رضي الله عنه narrated: I proceeded along with the Prophet ﷺ on day of Arafat. The Prophet ﷺ heard a great hue and cry and the beating of camels behind him. So he beckoned to the people with his lash, "O people, acquire calmness. "Hastening is not righteousness."

36. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَتُودَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ [رواه أبو داود، كتاب الادب: 4810]

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اعمش رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور نہیں میں جانتا اس کو مگر نبی کریم ﷺ سے، آپ ﷺ نے فرمایا ہر چیز میں آہستگی سوائے آخرت کے عمل میں۔

Saad bin Abi Waqas رضي الله عنه narrated that Amash رضي الله عنه said : I do not know of it except that the Prophet ﷺ said, "There is slowness in every thing except in the actions of the hereafter."

37. عَنْ أَبِي مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [رواه البخارى: كتاب الجهاد و السير: 2996]

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو (اس کا ثواب) اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ تندرستی کی حالت میں یا گھر میں عمل کرتا تھا۔

Abu Musa رضي الله عنه narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "When a slave (of Allah) suffers from illness or sets on a journey, he is rewarded with the equal of what ever good works he used to do when he was healthy at home."

38. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ [رواه البخارى، كتاب الصلح: 2697]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔

Aishah رضي الله عنها narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "If anyone introduces in our matter (Deen) something which does not belong to it, it will be rejected."

39. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ شَرَّ أَعْيُنِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُتُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ [رواه الترمذی، كتاب الدعوات: 3375]

تسببت بہ، قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله

سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ اسلام کے حکم مجھ پر بہت ہو گئے (اس لئے) مجھے ایسی چیز بتائیے جو کہ لازم پکڑوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔

Abdullah bin Busr رضی اللہ عنہ narrated, a man said to The Prophet ﷺ, "O Messenger of Allah ﷺ Indeed the commandments of Islam have become excessive for me, so tell me something that I should hold fast to. The Prophet ﷺ said, "Your tongue should always be moist with the remembrance of Allah ﷻ"

40. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ

فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ [رواه مسلم، كتاب الصلاة: 1823]

سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے۔

Abu Musa رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "The example of a home in which Allah is remembered and a home where Allah is not remembered, is like the example of) the living and the dead".

41. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا

قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ [رواه أبو داود، كتاب الأدب: 4855]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں اور یہ مجلس ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Those who leave a gathering after having made no mention of Allah in it, leave it like the corpse of a donkey and this gathering will be a means of remorse for them."

42. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

[رواه أبو داود، كتاب الادب: 4851]

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دو آدمی اپنے (تیسرے) ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں اس لئے کہ ایسا کرنا اس (تیسرے آدمی) کو غمگین کر دے گا۔

Abdullah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Two people should not converse privately excluding the third, (as) indeed it causes grief to him."

43. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ

الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ [رواه الترمذی، كتاب البر والصلة: 2003]

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی اور یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔

Abu Darda رضی اللہ عنہ narrated: I heard Allah's Messenger ﷺ say, "Nothing will be heavier in the balance than good conduct, and a person with good conduct reaches the rank of one who fasts and prays."

44. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَ لَوْ أَنَّ تَلَقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ

[رواه مسلم، كتاب البر و الصلة: 6690]

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تو اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے۔

Abu Dharr رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said to me, "Do not disdain a good deed even if it is meeting your brother with a smiling face."

45. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ

الْوَالِدِ [رواه الترمذی، كتاب البر و الصلة: 1899]

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصہ میں ہے۔

Abdullah bin Amr رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, " The pleasure of Allah lies in the pleasure of the father and the anger of Allah lies in the anger of the father."

46. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَ يَأْمُرْ

بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ [رواه الترمذی، كتاب البر و الصلة: 1921]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا۔

Ibn Abbas رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "The one who is not merciful to the young and not respectful to elders and does not command to good and neither stops from bad is not from us."

47. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبَرَكَهُ مَعَ الْكَبِيرِ كُمْ [رواه ابن حبان، كتاب البر و الاحسان: 559]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔

Ibn Abbas رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "Blessing is with your elders."

48. عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا

أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ

أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أُعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ [رواه البخارى، كتاب الهبة: 2587]

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ منبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا (نعمان کی والدہ) نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ ﷺ کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ (حاضر خدمت ہو کر) انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انھوں نے کہا کہ آپ کو پہلے اس پر گواہ بنالوں۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم رکھو وہ کہتے ہیں چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔

Numan bin Bashir رضی اللہ عنہما narrated on the pulpit: my father gave me a gift but Amra bint Rawaha (my mother) said that she would not agree to it unless he made Allah's Messenger ﷺ a witness to it. So, my father went to Allah's Messenger ﷺ and said, 'I have given a gift to my son from Amra bint Rawaha, but she ordered me to make you a witness to it O Allah's Messenger!' Allah's Messenger ﷺ asked 'Have you given the same to everyone of your sons?' He replied in the negative. Allah's Messenger ﷺ said "Fear Allah, and be just between your children". My father returned and took back his gift.

49. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

[رواه الترمذی، کتاب الزهد: 2317]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی کا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "The beauty of a person's Islam is (in) leaving that which does not concern him."

50. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا - وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ

فليسكت [رواه أحمد، مسند ابن عباس: 2136]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، سکھاؤ، اور آسانی کرو اور مشکل مت کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہئے کہ خاموش رہے۔

Ibn Abbas رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "Teach, and make things easy and do not create difficulty, and when any one of you is angry he should remain silent."

51. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ

لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

[رواه البخارى، كتاب الرقاق: 6475]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش

رہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو اذیت نہ دے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Whoever believes in Allah and the last day should speak good or keep silent, and whoever believes in Allah and the last day should not (cause) pain to his neighbour, and whoever believes in Allah and the last day should honour his guest."

52. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَأَيْقَهُ [رواه مسلم، كتاب الايمان: 172]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اسکے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "One whose neighbor is not safe from his deceit will not enter paradise."

53. عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ [رواه مسلم، كتاب البر: 6598]

سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔

Jarir رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "One who is deprived of gentleness is deprived of food."

54. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفْقَ [رواه أحمد: 71,6]

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لئے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔

Aisha narrated رضی اللہ عنہا : Allah's Messenger ﷺ said: "When Allah The Exalted intends goodness with a family, He places gentleness upon them."

55. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا [رواه البخاری، كتاب الآداب: 6094]

سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، بلاشبہ سچ (آدمی کو) نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور بلاشبہ جھوٹ (آدمی کو) برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔

Abdullah رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, 'Indeed Truthfulness leads to AL-Birr (righteousness) and becomes a siddiq (truthful person) Al-Birr leads to Paradise, and indeed man keeps on telling the truth until he a man keeps on telling lies AL-Fujur (wickedness) and AL-Fujur leads to (Hell) fire, and Indeed lying leads till he is written as a liar before Allah.'

56. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

[رواه مسلم ، فى مقدمة صحيحة:8]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے (اتنا ہی) کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو (آگے) بیان کر دے۔
Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "It is sufficient for a believer to be considered a liar that he narrates everything he hears."

57. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلِكِ الْمُتَنَطِّعُونَ. قَالَهَا ثَلَاثًا [رواه مسلم، كتاب العلم:6784]

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے / تکلف کرنے والے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔
Abdullah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Destroyed are those who are pretentious."
" He repeated this three times.

58. عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْبُذْيِ وَلَا الْفَاحِشِ

[رواه ابن حبان، كتاب الايمان:192]

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔
Abdullah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "A Momin is not the one who taunts, curses, speaks indecently or abuses others."

59. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ ،

وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ [رواه ابن ماجه ، كتاب الزهد: 4234]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص۔
Anas رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, " The son of Adam grows old, but two things remain young in him, the greed for wealth, and hope for a longer life."

60. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ

[رواه الترمذی، كتاب الزهد: 2329]

سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل نیک۔

Abdullah bin Busr رضی اللہ عنہ narrated, a bedouin said to The Prophet ﷺ, "O Messenger of Allah ﷺ, who is the best amongst people? He ﷺ replied, " Who has a long life and best of deeds."

61. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدُ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَأَاهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّكَّابِ، فَنَزَلَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ؟ فَضْرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ

[رواه مسلم، كتاب الزهد: 7432]

سیدنا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ اتر اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت کے لئے لڑ رہے ہیں؟ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا چپ رہ۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی، غنی، چھپا ہوا ہو۔

Amir bin Saad رضی اللہ عنہ narrated that Saad bin Abi Waqqas رضی اللہ عنہ was amongst his camels when his son came. When Saad رضی اللہ عنہ saw him, he said, " I seek refuge in Allah from the mischief of this rider. Then he dismounted and said, " You are busy amongst your camels and goats and have left people to dispute for authority? Saad رضی اللہ عنہ hit his chest and said, 'be quite' I heard the Messenger of Allah ﷺ say, "Indeed Allah loves a servant who is pious, content, and hidden."

62. عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَجَعَلَ يَحْتُو فِي وَجْهِهِ الْحَصَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْتُوا

فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ [رواه مسلم، كتاب الزهد: 7506]

سیدنا ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ (کے منہ پر ان) کی تعریف کرنے لگا، تو سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ (قصداً) اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور وہ موٹے تھے، اور تعریف کرنے والے کے منہ پر نکریاں ڈالنے لگے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب تم (روبرو) تعریف کرنے والے کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو۔

Hammam bin Al-Harith رضی اللہ عنہ and Al-Miqdad رضی اللہ عنہ: A person began to praise Uthman رضی اللہ عنہ deliberately sat upon his knees and began to throw pebbles upon the flatterer's face and he was a fat man. Uthman رضی اللہ عنہ said: "What is the matter with you?" He said: "Verily, Allah's Messenger ﷺ said, "When you see those who shower praise upon others throw dust upon their faces."

63. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى

الْمُؤْمِنِ [رواه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب: 6721]

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اچھے اعمال کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔

Abu Dharr رضی اللہ عنہ narrated : Allah's Messenger ﷺ was asked "What do you say about a person who does good deeds and people praise him? He ﷺ said, "That is glad tidings for the momin which is hastened for him. (in the world).

64. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدْرِكُكُمْ

عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ [رواه مسلم، كتاب الايمان: 194]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، "تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ۔ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔"

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated : Allah's Messsenger ﷺ said, "You will not enter paradise until you believe, and you will by no means believe until you love one another. Shall I not inform you of something which if you do you will love one another? Spread salam amongst yourselves."

65. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمُ بِالسَّلَامِ

[رواه أبو داود، كتاب الادب: 5197]

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے۔

Abu Umamah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "The person nearest to Allah is the one who is foremost in offering Salam."

66. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، قَبْلَ أَنْ

يَفْتَرِقَا [رواه أبو داود، كتاب الادب: 5212]

سیدنا البراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اسکے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔

Al-Bara رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Mesenger ﷺ said, "Two muslims will not meet and shake hands without having their sins forgiven before they depart."

67. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

[رواه ابن حبان، كتاب الحضرة والاباحة: 5603]

سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، تحفہ مت لوٹاؤ، اور مسلمانوں کو مت مارو۔

Abdullah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Accept the invitation of one who invites, do not return the gift, and do not hit the Muslims."

68. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَرَّضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ، فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ

[رواه مسلم، كتاب الالفاظ من الادب: 5883]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے اس لئے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "He who is presented with a scented flower should not refuse it, for it is light to carry and pleasant in scent."

69. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

[رواه مسلم، كتاب الرضاع: 3649]

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع صالح بیوی ہے۔

Abdullah bin Amr رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "The world is a means of benefit and it's best benefit is a righteous wife."

70. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ

يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي [رواه مسلم، كتاب الامارة: 4747]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: The prophet ﷺ said, "Whoever obeys me has surely obeyed Allah, and whoever disobeys me has surely disobeyed Allah, and whoever obeys the leader has surely obeyed me, and whoever disobeys the leader has surely disobeyed me."

71. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَ

الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [رواه البخاری،

كتاب الجمعة: 5200]

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ پس امیر نگران ہے، اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں پر نگران ہے پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
Ibn-e-Umar رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "Everyone of you is a guardian and will be questioned for those under him. The ruler is a guardian and a man is a guardian of his family and a woman is a guardian of

her husband's house and children, so all of you are guardians and will be questioned about those under you."

72. عن أنس بن مالك، قال: حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فِي الْخُطْبَةِ:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ [رواه ابن حبان، كتاب الايمان: 194]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے خطاب کیا تو خطبہ میں فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔

Anas bin Malik رضي الله عنه narrated : Allah's Messenger ﷺ addressed us and said in his sermon, "He has no Iman who is not trust worthy, and he has no Deen who does not keep promises."

73. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

[رواه مسلم، كتاب الايمان: 283]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔

Abu Hurairah رضي الله عنه narrated : Allah's Messenger ﷺ said, "Whoever took up arms against us is not amongst us and whoever adulterates (in things) is not amongst us."

74. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ!

لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا، عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَكُلْتَ إِلَيْهَا. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا، عَنْ غَيْرِ

مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا [رواه مسلم، كتاب الامارة: 4715]

سیدنا عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا، اے عبدالرحمن تم حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا اس لئے کہ یہ منصب اگر تجھے بغیر سوال کے مل گیا تو اس پر تیری مدد ہوگی اور اگر یہ تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو پھر یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا۔

Abdur - Rahman bin Samurah رضي الله عنه narrated: Allah's Messenger ﷺ said:

" Do not ask for position of authority. If you are granted this position without asking for it you will be helped in discharging its responsibilities but if you are given it as a result of your request, you will be left alone as it's captive."

75. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ [رواه البخارى، كتاب الاحكام: 7150]

سیدنا عبید اللہ بن زیاد سے روایت ہے کہ وہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لئے اس مرض میں گئے جس میں ان کا انتقال ہوا تو معقل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی تھی میں نے سنا آپ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ اس کی خیر خواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔

Uбайдالله بن زياد رضي الله عنه narrated that he went to visit Maqil bin Yassar رضي الله عنه who was sick and later died. Maqil رضي الله عنه said to him, I will narrate a hadith to you which I had heard from The Prophet ﷺ. I heard The Prophet ﷺ say, " Any man whom Allah has given the authority to rule over some people and does not look after them with sincerity, will not even smell the scent of paradise."

76. عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: **الدِّينُ النَّصِيحَةُ** قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَتِهِمْ [رواه مسلم، كتاب الايمان: 196]

سیدنا تميم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دین خیر خواہی (کا نام) ہے۔ ہم نے کہا کس کے لئے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے لئے اور اسکی کتاب کے لئے اور اسکے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور انکے عوام کے لئے۔

Tameem Ad-Dari رضي الله عنه narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Deen is sincerity." We said for whom? He ﷺ stated: For Allah, His Book, His Messenger, leaders of the Muslims and for their common people.

77. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُبَدِّعُ بِي فَاحْمِلْنِي - فَقَالَ: مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا أَذْهَبُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ** [رواه مسلم، كتاب الامارة: 4899]

ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں۔ تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لئے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے۔

Abu Masud Ansari رضي الله عنه narrated : A man came to the Messenger of Allah ﷺ and said, 'My riding animal has been have none with me. A man said, O Messenger of Allah, Can I killed, so give me some animal to ride upon. He ﷺ said I guide him to one who will provide him with a riding animal?

The Messenger of Allah ﷺ said, "Whoever guides to good will receive the reward of the one who does good."

78. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: **الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ** [رواه البخارى، كتاب المظالم: 2446]

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے بیان فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اور آپ ﷺ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا۔

Abu Musa رضی اللہ عنہ narrated : The Prophet ﷺ said, "A believer to another believer is like a building, whose different parts reinforce each other." (While saying that) the Prophet ﷺ clasped his fingers interlaced.

79. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: اغْزِلِ الْأَذَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ [رواه

مسلم، كتاب البر و الصلة: 6673]

سیدنا ابو بزرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا نبی اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتائے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مسلمانوں کی راہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔

Abu Barzah رضی اللہ عنہ narrated: I said O Prophet of Allah ﷺ inform me of some act I can benefit from.

Allah's Messenger ﷺ said, "Remove the troublesome thing from the path of the Muslims."

80. عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ [رواه مسلم، كتاب البر و الصلة: 6553]

سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آتے تک وہ بہشت کے باغ میں رہتا ہے۔

Thauban رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "He who visits his sick Muslim brother, will remain in the garden of paradise till he returns."

81. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً [رواه البخاری، كتاب

الطب: 5678]

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "Allah has sent down no disease for which he has not sent down a cure."

82. عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ

لَتَمَنَّيْتُ [رواه البخاری، كتاب التمني: 7233]

سیدنا نصر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم ﷺ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا۔

Nadhar bin Anas رضی اللہ عنہ narrated that Anas رضی اللہ عنہ said: If I had not heard The Prophet ﷺ say, "You should not long for death", then I would certainly have longed for it.

83. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى [رواه البخاری، كتاب الجنائز: 1302]

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔

Anas رضی اللہ عنہ narrated : The Prophet ﷺ said, "Patience is at the first stroke of a calamity."

84. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ

الْمَلَكُ: وَ لَكَ بِمِثْلِ [رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء: 6927]

سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لئے بھی اسکی مثل ہو۔
Abu Darda رضي الله عنه narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "There is no muslim who supplicates for his brother in his absence, except that the angels say "May the same be for you."

85. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[رواه مسلم، كتاب البر والصلة: 6595]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔
Abu Hurairah عن النبي ﷺ said, "The person who conceals the faults of another in this world, Allah will conceal his faults on the day of Standing (Ressurrection)."

86. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

[رواه البخاری، كتاب التوحيد: 7376]

سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔
Jarir bin Abdullah رضي الله عنهما narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Allah does not show mercy to the one who is not merciful to people."

87. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[رواه البخاری، كتاب المظالم: 2447]

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔
Abdullah bin Umar رضي الله عنهما narrated, The Prophet ﷺ said, "Az-zulm (injustice) will be darkness on the day of Standing".

88. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ:

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ [رواه البخاری، كتاب المظالم: 2448]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب (عامل بنا کر) یمن بھیجا تو آپ ﷺ نے انھیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ اسکے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

Ibn Abbas رضي الله عنهما narrated: The Prophet ﷺ sent Mu'adh to Yemen and said, "Fear the curse of the oppressed one as there is no screen between his invocation and Allah."

89. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

[رواه مسلم، كتاب الأضاحي: 5055]

سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو باتیں یاد رکھی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم (جانور) ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تمہارے ہر آدمی کو چاہئے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔

Shaddad bin Aus رضي الله عنه narrated that I remembered two things from Allah's Messenger ﷺ He said, "Verily Allah has prescribed (Ihsan) utmost goodness to be done in everything. Thus, if you kill, kill well; and if you slaughter; slaughter well. Let each one of you sharpen his blade and spare suffering to the animal he slaughters."

90. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

[رواه البخاری، كتاب الرقاق: 6508]

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔

Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه narrated: The Prophet ﷺ said, "Whoever Loves to meet Allah, Allah loves to meet him, and whoever dislikes to meet Allah, Allah dislikes to meet him."

91. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوصِيهِ، وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا أَوْ قَبْرِي، فَبَكَى مُعَاذٌ حَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ انْفَتَتْ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ: إِنَّ أَوْلَى

النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا. [رواه أحمد: 5, 235]

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ ﷺ ان کے ساتھ نکلے، وہ ان کو وصیت کر رہے تھے، معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ﷺ (وصیت سے) فارغ ہوئے تو فرمایا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، یا شاید تم میری اس مسجد یا قبر سے گزرو تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی جدائی کے رنج میں رو پڑے۔ پھر وہ مڑے اور انھوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا بیشک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔

Muadh bin jabal رضي الله عنه narrated: When Allah's Messenger ﷺ appointed him to Yemen, he came out with him and advised him. Muadh رضي الله عنه was mounted and the Messenger ﷺ of Allah he was walking along with him After this, he said "O Muadh, perhaps you will not meet me after this year or you may pass by my mosque or my grave, Muadh رضي الله عنه began to weep out of grief of parting from the Messenger of Allah ﷺ Then he turned his face towards Madina and said, "Indeed the closest of people to me are the

Muttaqeen, Whoever they are and wherever they may be."

92. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُكثِرُوا الضَّحْكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ

الْقَلْبَ [رواه ابن ماجه، كتاب الزهد: 4193]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said,

"Do not laugh excessively, indeed too much laughter makes the heart dead."

93. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ

مِثْلُ ذَلِكَ [رواه البخاری، كتاب الرقاق: 6488]

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی ہے۔

Abdullah رضی اللہ عنہ narrated: The Prophet ﷺ said, "Paradise is nearer to anyone of you than the leather strap of his shoe, and so is the Hell (fire)."

94. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

[رواه البخاری، كتاب الرقاق: 6487]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے

Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "The (Hell) fire is surrounded by all kinds of desires and passions while Paradise is surrounded by all kinds of disliked things."

95. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ [رواه مسلم، كتاب الزهد: 7417]

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔

Abu Huraiah رضی اللہ عنہ narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "The world is a prison for the believer and a paradise for the disbeliever."

96. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ

غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ [رواه البخاری، كتاب الرقاق: 6416]

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو۔

Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما narrated, "Allah's Messenger ﷺ took hold of my shoulder and said,

"Be in this world as if you are a stranger or a traveller."

97. عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

[رواه مسلم، كتاب الزهد: 6516]

سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھلے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔

An-Nawwas bin Saman رضي الله عنه narrated: I asked Allah's Messenger ﷺ of and virtue and Sin.

He replied, "Virtue is noble behaviour and Sin is that which pricks your soul and you dislike people finding out about it."

98. عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلِيٍّ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي:

أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ [رواه ابن ماجه، كتاب الزهد: 4252]

سیدنا ابن معقل سے روایت ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا میں نے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (دلی) ندامت کا نام توبہ ہے۔ میرے باپ نے کہا رسول اللہ ﷺ سے تم نے سنا ہے کہ (دلی) ندامت کا نام توبہ ہے انہوں نے کہا ہاں۔

Ibn Maqil رضي الله عنه narrated: I came with my father to Abdullah رضي الله عنه and heard him say,

Allah's Messenger ﷺ said "Remorse is repentance, my father asked him, 'did you actually hear

The Prophet ﷺ say, "Remorse is repentance"?. He replied 'yes'.

99. عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى

بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ [رواه البخاري، كتاب الدعوات: 6309]

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں کوئی شخص صحرا میں اپنا اونٹ کھو دے، اور پھر اچانک وہ اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو پالے۔

Anas bin Malik رضي الله عنه narrated: Allah's Messenger ﷺ said, "Allah is more pleased with the repentance of his slave than anyone of you would be on losing his camel in the desert and then suddenly finding it in front of him."

100. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا [رواه ابن

ماجه: كتاب الادب: 3818]

عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مبارک ہو اسکو جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پائے۔

Abdullah bin busr رضي الله عنه narrated: The Prophet ﷺ said,

"Glad tidings for one who finds an abundance of seeking forgiveness in his Book of Deeds."

کتابیات

- ☆ صحیح بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی
مکتبہ دار السلام الرياض، طبع 1999
- ☆ صحیح مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری
مکتبہ دار السلام الرياض، طبع 1998
- ☆ سنن ابی داود، ابوداود سلیمان بن الاشعث بن اسحاق الازدی السجستانی
مکتبہ دار السلام الرياض، طبع 1999
- ☆ جامع الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورة ابن موسیٰ الترمذی
مکتبہ دار السلام الرياض، طبع 1999
- ☆ سنن نسائی، ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب بن علی ابن سنان النسائی
مکتبہ دار السلام الرياض، طبع 1999
- ☆ سنن ابن ماجه، ابو عبد اللہ محمد بن یزید الربیع ابن ماجه القزوینی
مکتبہ دار السلام الرياض، طبع 1999
- ☆ المسند، احمد بن محمد بن حنبل،
دار المعارف بمصر، طبع 1950
- ☆ المسند، احمد بن محمد بن حنبل،
دار صادر بیروت
- ☆ صحیح ابن حبان، الامیر علاء الدین علی بن بلبان الفارسی،
مؤسسۃ الرسالۃ بیروت، طبع 1993
- ☆ صحیح سنن نسائی، محمد ناصر الدین البانی،
المکتب الاسلامی - بیروت، طبع 1988
- ☆ صحیح سنن ابی داود، محمد ناصر الدین البانی،
مکتب التریبۃ العربی لدول خلیج، طبع 1989
- ☆ صحیح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدین البانی، المکتب الاسلامی - بیروت، طبع 1986
- ☆ صحیح الجامع الصغیر و زیاده، محمد ناصر الدین البانی، المکتب الاسلامی بیروت، طبع 1986
- ☆ لغات الحدیث، وحید الزماں، میر محمد، کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ، کراچی۔